



ایک شخص نے نبی سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا: اسے اندر آنے کی اجازت دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا شخص ہے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا: "اسے اندر آنے کی اجازت دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا شخص ہے" [صحیح] [متفق علیہ]

ایک آدمی نے نبی سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا: اسے اندر دو، یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا شخص ہے، یا آپ نے "أخو العشيرة" کی بجائے "ابن العشيرة" فرمایا جب وہ آ بیٹھا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت خندہ روئی اور خوش مزاجی سے پیش آئے اس آدمی کے چلے جانے کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تھا تو آپ نے ایسے کہا تھا جب کہ بعد ازاں آپ اس سے بہت خندہ روئی اور خوش مزاجی سے پیش آئے ہیں، (اس کی کیا وجہ ہے؟) اس پر رسول اللہ نے فرمایا: "اے عائشہ! تم نے مجھے بد گو کب پایا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جو گاس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لئے کنارے کشی کر لیں، یہ شخص فساد اور فتنے انگیز لوگوں میں سے تھا اس لئے آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس انداز میں کیا جس کا وہ حق دار تھا اور فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے آپ نے لوگوں کو اس کی فتنے انگیزی پر متنبہ کرنے کے لئے یہ فرمایا تاکہ وہ اس سے دھوکہ نہ کھا بیٹھیں چنانچہ جب آپ بھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو برا اور گمراہ ہے لیکن اس نے اپنی فصاحت کی بدولت لوگوں کو مسحور کر رکھا ہے تو اس صورت میں آپ کے لئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ شخص برا ہے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا لیں کتنے ہی ایسے چرب زبان اور فصیح الکلام لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈیل ڈول آپ کو بہت بھاتا ہے اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اسے آپ بغور سنتے ہیں لیکن ان میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسے شخص کی حقیقت حال کو بیان کرنا واجب ہے باقی رہا آپ کا اس شخص کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا تو یہ مدارات (دل رکھنا) کے قبیل سے تھا اہل علم کے نزدیک دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں مدارات ضروری ہے بخلاف مدارات کے اس سے مراد وہ مدارات جس کی وجہ سے کسی واجب سے دستبردار ہونا پڑے یا پھر کسی ممنوع کام سے چشم پوشی ہو یا کسی حرام کا ارتکاب ہو ایسا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ** [سورة القلم: 9] "وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں" جب کہ مدارات اور لوگوں کے ساتھ اس انداز میں برتاؤ کرنا جس سے مصلحت کا حصول ہو اور اس سے کوئی برائی بھی مرتب نہ ہوتی ہو تو یہ ایک مشروع عمل ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

